

تفریح کا اسلامی تصور اور اس کی شرعی حدود

محمد عبدالعلی اچنڑی *

تفریح کا مفہوم:

تفریح فرح سے نکلا ہے، فرح کی تعریف کرتے ہوئے امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

الفرح انشراح الصدر بلذة عاجلة واكثر ما يكون ذلك في اللذات البدنية (۱)

”الفرح کے معنی کسی فوری یاد یوں لذت پر انشراح صدر کے ہیں، عموماً اس کا اطلاق جسمانی لذتوں پر خوش ہونے کے معنی میں ہوتا ہے“

سی طرح امام قرطبی لکھتے ہیں:

والفرح لذة في القلب بادراك السحبوب (۲)

”محبوب چیز کے پالینے سے جو قلبی لذت نصیب ہوتی ہے، اس کا نام فرحت اور خوشی ہے“

یہ فرحت اگر اترابہت تک پہنچ جائے تو شرعاً منوع ہے، قرآن حکیم میں فرمایا گیا لاتفریح إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرَحِينَ (۳) ”مَنْ أَتَى اللَّهَ بِإِيمَانٍ وَأَنْهَاكَ اللَّهَ أَتَرَانِي نَوْمًا كَرِتَ“ اور اگر یہ فرحت اترابہت اور پہنچ تک نہ پہنچے، بلکہ محض قلبی خوشی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے احساس پر مبنی ہو تو عند اللہ پسندیدہ، محسن اور مطلوب ہے، چنانچہ ایک جگہ حکم دیا گیا فُلْ يَفْضُلُ اللَّهُ وَيَرْحَمُهُ فِي ذِلِّكَ فَلَيَفْرَحُوا (۴) ”آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے ہے تو اس پر خوش ہونا چاہئے“

تفریح کا اسلامی تصور اور اس کی ضرورت و اہمیت:

ہر انسان اس دنیا میں بحیثیت ایک انسان کے، کچھ ایسی ضرورتیں اور تقاضے رکھتا ہے جنہیں پورا کرنا لازم اور ناگزیر ہوتا ہے، چنانچہ اسے بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے، بیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے، سردی گرمی ستاتی ہے تو مکان بناتا ہے، جنسی خواہش ہوتی ہے تو صرف مخالف کی طرف مائل ہوتا ہے، کام کا جس سے تھک جاتا ہے تو آرام کرتا ہے، ماحول سے اکتا ہے تو سرت اگلیز تفریحات کا طلب گار ہوتا ہے، تیکنی روح نگ کرتی ہے تو تہائی کا

* ایسوی ایٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، یلو چستان یونیورسٹی کوئٹہ، پاکستان

خواہاں اور عبادت گذار ہو جاتا ہے۔ بھوک، پیاس، شہوت و آرام، تفریحات و عبادات یہ سب فطری تقاضے ہیں، جن کی تکمیل ہی صحیح اور متوازن زندگی کا ذریعہ ہے، لہذا ان تقاضوں کو پورانہ کرنا سخت ظلم و زیادتی ہونے کے علاوہ خود فطرت سے بھی لڑتا ہے، اس بارے میں مولانا گوہر حسن لکھتے ہیں:

”چونکہ جسم روح کی سواری ہے اور اس کا محلہ کائنہ ہے، جس کے بغیر زندگی بحال نہیں رہ سکتی، اس لئے اسلام نے جسم کے ضروری اور طبعی تقاضے پورے کرنے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ ان کو جسم کا حق قرار دیا ہے، جس طرح کہ کھانا، پینا، ہوتا، کپڑے پہننا، گرمی اور سردی سے بچنا، جنسی ضرورت پوری کرنا، علاج اور دوایاں اور دوسری ضروریات اور کھلیات جسمانی تقاضے ہیں، جن کو پورا کئے بغیر جسمانی صحت اور قوت بحال نہیں رہ سکتی، اسی طرح تکمیل و تفریح بھی انسانی جسم کی صحت و قوت کو بحال رکھنے اور طبیعت کے نشاط کے لئے اپنے اندر افادیت کے بہت سے پہلو رکھتی ہے، اس لئے اسلام نے کھلیوں اور صحت مند تفریجی پروگراموں کی اجازت دی ہے۔“ (۵)

اسی طرح یوسف الفراوی لکھتے ہیں:

”اسلام واقعیت پسندانہ دین ہے، وہ انسان کو وہم و خیال کے دائرہ میں بند کر کے نہیں رکھتا، بلکہ اسی زمین پر جو حقائق و واقعات کی زمین ہے، رہنا سکھاتا ہے، وہ لوگوں کو آسمان میں پرواز کرنے والے فرشتے سمجھ کر معاملہ نہیں کرتا، بلکہ کھانا کھانے والے اور بازار میں چلنے پھرنے والے انسان سمجھ کر معاملہ کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے لوگوں پر یہ فرض گران عائد نہیں کیا ہے کہ اس کی ہربات ذکر اور ہر خاموشی فکر ہو، ساعت وہ صرف قرآن کی کریں اور اپنے تمام فارغ اوقات مسجد میں گزاریں، بلکہ وہ ان کی فطرت اور ان کے طبائع کا پورا پورا لحاظ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ہی اس طور سے فرمائی ہے کہ جس طرح کھانا اور پینا تقاضائے نظرت ہے، اسی طرح شاداں و فرحاں رہنا اور ہنسنا اور کھلینا بھی اس کی سرشت میں داخل ہے۔“ (۶)

قرآن حکیم میں ارشادِ خداوندی ہے:

أَرْسَلْنَا مَعَنَا غَدَّاً يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۝ (۷)

”(یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا) پیش اس (یوسف علیہ السلام) کو ہمارے ساتھ کل کو خوب کھائے، اور کھلیئے اور تم تو اس کے نگہبان ہیں۔“

اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے سیر و تفریح اور آزادی سے کھانے پینے اور کھلینے کو نہ کی اجازت مانگی گئی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس کی کوئی ممانعت نہیں فرمائی، فقهاء نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا

ہے کہ سیر و تفرّع جائز کھیل ہیں، اور مطلق کھیل اور تفرّع اگر اس کے اندر کوئی جزء معصیت کا نہ ہو، تو بالکل جائز ہے، جیسا کہ مولانا عاشق اللہ لکھتے ہیں:

”حضرات علماء کرام نے اس سے یہ مستحب کیا ہے کہ سیر و تفرّع اور کھیل کو جو حدود شرعیہ کے اندر ہو جائز ہے مباح ہے، بچوں کو اس کا کھیلنا کھلانا جائز ہے اور بالغین بھی آپس میں دوڑ لگا سکتے ہیں، بلکہ خیر کی نیت سے ہو تو اس میں ثواب بھی ہے۔“ (۸)

علامہ جاصص لکھتے ہیں:

واللَّعبُ هُوَ الْفَعْلُ الْمُقْصُودُ بِهِ التَّفَرِّجُ وَالرَّاحَةُ مِنْ غَيْرِ عَاقِبَةٍ لَهُ مُحَمَّدَةٌ وَلَا قَصْدٌ فِيهِ لِفَاعِلِهِ الْاِحْصَوْلُ
اللَّهُو وَالْفَرَحُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَمِنْهُ مَا يَكُونُ مَبَاحًا وَهُوَ مَالًا اِنْ فِيهِ كَثِيرٌ مِنْ لِعَابَةِ الرَّجُلِ اهْلَهُ وَرَكْوَبِهِ فَرَسَهُ
لِلتَّطَرُّبِ وَالْتَّفَرِّجِ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَمِنْهُ مَا يَكُونُ مَحْظُورًا وَفِي الْآيَةِ دَلَانَةٌ عَلَى اَنَّ الْلَّعبَ الَّذِي ذُكِرَهُ كَانَ
مَبَاحًا لَوْلَا ذَلِكَ لَأَنَّكَرَهُ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ۔ (۹)

”لَعبُ (کھیل) اس عمل کو کہتے ہیں جس میں تفرّع مقصود ہوتی ہے اور اس کے ذریعے راحت حاصل کی جاتی ہے، اس سلسلے میں کسی اچھیے انجام کو مد نظر نہیں رکھا جاتا اور نہ ہی اس فعل کے کرنے والے کے سامنے تفرّع اور تماشا کے حصول کے سوا اور کوئی مقصد ہوتا ہے، اس بنا پر لَعب کی بعض صورتیں مباح اور جائز ہوتی ہیں، یعنی ان کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، مثلاً: ایک شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ اُنکی نداق اور چھپڑ چھاڑ، اسی طرح طرب و تفرّع کے لئے گھوڑا سواری وغیرہ، لَعب کی بعض صورتیں منوع اور حرام ہوتی ہیں، آیت میں یہ دلالت موجود ہے کہ جس لَعب کا ہر اور ان یوسف نے ذکر کیا تھا وہ مباح اور جائز تھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس پر انہیں ثوکتے اور اس سے انہیں روکتے۔“

امام رازی لکھتے ہیں:

”جائز ان یکون المراد من اللَّعبِ الْاِقْدَامِ عَلَى الْمُبَاحَاتِ لَا جَلَانَشَرَاعَ الصَّدَرِ۔ (۱۰)“ کماروی عن

النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لجابر فهلا بکرا تلاعبها وتلاعبك۔ (۱۱)

”جائز ہے کہ لَعبُ (کھیل) سے مراد مباح کھیلوں پر اقدام ہو طبیعت کو خوشی اور راحت پہنچانے کے لئے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ”کیوں کنواری سے نکاح نہیں کیا، تم اسے کھلیتے اور وہ تم سے کھلیتی۔“

مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

”بعض مفسرین نے (العب) کی تفسیر مسابقت و تیر اندازی سے کی ہے جس سے مقصود اعداد و قوت لقتال العدو ہے اس کو لعب باعتبار صورت کہہ دیا ورنہ لعب حقیقی کی کہ عبث ہے، یعقوب علیہ السلام اجازت نہ دیتے، میں کہتا ہوں کہ لعب حقیقی بھی جو کہ مباح ہو، جب اس میں یہ مصلحت ہو کہ اس سے نشاط ہوگا جو تحصیل علم و تکمیل عمل میں معین ہوگا، عبث نہیں“ (۱۲)

تعمیری تفہیمات اور ان کی افادیت:

ایسی تعمیری تفریح جس سے جسم دروح کو راحت پہنچے، وہ اسلام میں نہ صرف جائز بلکہ شرعاً ایک حد تک مستحسن مطلوب ہے، تاکہ اس تفریح اور تکمیل کو دے کے ذریعے جسم اور روح کا کسل اور طبعی ملال دور ہو کر دوبارہ طبیعت میں نشاط، چستی، حوصلہ، ہمت اور امتنگ پیدا ہو، اور انسان ایک بار پھر پوری خوش دلی کے ساتھ زندگی کے اعلیٰ مقاصد کی طرف متوجہ ہو سکے، جیسا کہ علامہ یوسف الفرقضادی لکھتے ہیں:

”تفریح کی بہت سی مشتمیں اور تکمیل کے بہت سے طور طریقے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لئے جائز قرار دیا ہے، تاکہ ان کے بار خاطر کو ہلاکا کرنے اور تفریح طبع کا سامان ہو، یہ تکمیل ایسے ہیں جو عبادات اور واجبات کی ادائیگی پر بلکہ ان میں سرگرمی کے ساتھ حصہ لینے پر آمادہ کرتے ہیں، نیز ان ورزشی کھیلوں کے ذریعے ایسی ٹریننگ ہوتی ہے جو قوت میں اضافہ کا موجب ہے اور اس سے آدمی میدان جہاد کے لئے تیار ہو جاتا ہے، یہ تکمیل اسی قبیل کے ہیں، دوڑ میں مقابلہ، کشتی لڑنا، تیر اندازی، نیزہ چلانا، گھوڑے سواری وغیرہ“ (۱۳)

ایسی بامقصد تفریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اسوہ حسنے سے پوری طرح ثابت ہے، آپ ﷺ نے نہ صرف اسے جائز قرار دیا ہے بلکہ اعلیٰ مقاصد کے پیش نظر اسے باعث اجر و ثواب سمجھا ہے، چنانچہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مسلسل جدوجہد علم و عمل، خیانت خداوندی، ذکر و فکر الہی، جہاد و تبلیغ اور حسن عبادات سے آراستہ نظر آتی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنے میں ہمیں بامقصد تکمیل اور وقتاً فوقتاً تفریح کی شانیں بھی نظر آتی ہیں، مثلاً: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں پر گزر ہوا جو مدینہ میں شہرے ہوئے تھے اور تکمیل میں مشغول تھے، پس آپ ﷺ ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کانوں کے درمیان سے دیکھتی رہی اور آپ ﷺ ان سے فرماتے رہے:

خذدوا یابنی ارفدة حتى تعلم اليهود والنصارى ان فی دیننا فسحة. (۱۴)

”اے جبھی بچو! کھیلتے رہو تاکہ یہود و نصاریٰ کو پتا چل جائے کہ ہمارے دین میں وسعت ہے۔“

ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں:

الهوا والعوا فانی اکره ان اراى فى دينكم غلظة. (۱۵)

”کھیل کو دیکا کرو کیونکہ میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ تمہارے دین میں سختی دیکھوں۔“

ترمذی وغیرہ کی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

کل شیء یلہوا به الرجل باطل الارمیه بقوسه وتدبیه فرسه وملاعبته أمر الله فانهن من الحق (۱۶)

”آدمی کا ہر کھیل بے کار ہے سوائے تین کے (۱) تیر اندازی کرنا، (۲) گھوڑا سدھانا (۳) اپنی بیوی کے ساتھ کھلینا، کیونکہ یہ تینوں کھیل حق میں سے ہیں (یعنی کار آمد ہیں)۔“

احادیث کی کتابوں میں ایسی بہت سی روایات موجود ہیں جن سے با مقصد تفریح اور کھیل کا جواز ثابت ہوتا ہے، ایسی ہی احادیث کی تشریع کرتے ہوئے ملاعلیٰ قاری لکھتے ہیں:

وفي معناها كل ما يعين على الحق من العلم والعمل اذا كان من الامور المباحة، كالمسابقة بالرجل

والخيل والابل، والتمشية للتزله على قصد تقوية البدن ونطريه الدماغ. (۱۷)

”حدیث میں ذکر کردہ کھلیوں میں ہر وہ کھیل داخل ہے جو علم و عمل کے لئے معاون بنتا ہو اور فی نفس جائز کاموں میں اس کا شمار ہو، جیسا کہ پیدل دوڑ، گھر دوڑ، اتوٹوں کی دوڑ، یا بدن کی تقویت اور دماغ کی وتاگی کے ارادے سے چھل قدمی وغیرہ۔“

ابن العربي حدیث مذکورہ کی تشریع کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

هذا بقوته يدل على ان كل ما يعود بمنفعة او تدریب في مقابلة العدو، مثله كاللعب بالحراب ،

والدرق ، والمسابقة على الاقدام. (۱۸)

یعنی ہر وہ کھیل جس کا نقفع یقینی ہو یا دشمن کے مقابلے میں ٹریننگ کا کام دیتا ہو، جیسے نیزہ بازی، ڈھال کی مشق یا پیدل دوڑ کا مقابلہ (وہ حدیث میں ذکر کردہ کھلیوں کی طرح ہے)

مفہوم شفیع لکھتے ہیں:

”جو کھیل بدن کی ورزش اور تنفسی باقی رکھنے کیلئے یا کسی دوسرا دینی دینیوی ضرورت کے لئے یا کم از کم طبیعت کی بنا کان دور کرنے کے لئے ہوں اور ان میں غلوٹ کیا جائے کہ انہیں کو مشغلہ بنالیا جائے اور ضروری کاموں میں ان سے حرج پڑنے لگے، تو ایسے کھیل شرعاً مباح اور دینی ضرورت کی نیت سے ہوں تو ثواب بھی ہے۔“ (۱۹)

علامہ خطابی مذکورہ بالا حدیث کی تفریغ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

و بدخل فی معناها ما کان من المشاقفہ بالسلاح والشد علی الاصدام و نحوهما مما یرتاض به الانسان
فیتوقع بذلك بدنہ وینتوی به علی مجادلة العدو (۲۰)

”(حدیث میں مذکورہ بامقصود) کھیلوں کے حکم میں وہ کھیل بھی داخل ہیں جن کے ذریعہ انسان کی جسمانی ورزش
ہوتی ہے تاکہ ان کے ذریعے بدن مضبوط ہو سکے اور دشمن سے مقابلہ کی قوت حاصل ہو، جیسے تھیاروں کا
مقابلہ اور پیدل دوڑ وغیرہ“

بہر حال تفریغ کے ایسے پروگرام جو بامقصد، صحت بخش اور تغیری ہوں، ایسے پروگرام اصحاب رسول رضی اللہ
عنہم بھی کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس قسم کی کھیلوں میں بعض اوقات شرکت کی تھی، چند
مثالیں ملاحظہ کیجئے:

(۱) نشانہ بازی:

اسلام کا پہلا پسندیدہ کھیل نشانہ بازی ہے، حضور ﷺ نے کئی احادیث میں اس کے فضائل بیان کئے ہیں
اور اس کے سکھنے کو باعث اجر و ثواب قرار دیا ہے، کیونکہ یہ کھیل جہاں جسم کی پھرتو، اعصاب کی پختگی اور نظر کی تیزی
پیدا کرتا ہے۔ وہایہ کھیل آڑے و قتوں میں اور خاص طور پر جہاد کے موقع پر کافروں کے مقابلے میں مسلمان نوجوانوں
کے خوب کام آتا ہے۔ قرآن حکیم میں باقاعدہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے:

وَاعْدُ وَالهُمْ مَا شَطَّلْتُمْ مِنْ فُرْقَةٍ (۲۱)

”اے مسلمانو! تمہارے بس میں چتنی قوت ہو سے کافروں کے لئے تیار رکھو“

مسلم شریف کی ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اس ”قوت“ کی تفسیر ”ری“ سے کی ہے۔ آپ ﷺ
نے تمیں مرتبہ فرمایا:

الاَنِ الْفُرْقَةُ الرَّمِيُ الْاَنِ الْفُرْقَةُ الرَّمِيُ الْاَنِ الْفُرْقَةُ الرَّمِيُ (۲۲)

”خبر درا قوت پھینکنا ہے، بے شک قوت پھینکنا ہے، بلاشبہ قوت پھینکنا ہے“

اس پھینکنے میں جس طرح تیر کا پھینکنا واضح ہے، اسی طرح اس لفظ میں گوئی نشانہ پر پھینکنا، راکٹ، میزائل، بم کو
نمیک نمیک نشانہ تک پہنچانا بھی داخل ہے اور ان میں سے ہر ایک کی مشق جہاں جسم اور اعصاب کی ریاضت ہے وہاں
باعث اجر و ثواب بھی ہے، جیسا کہ محمد بن اسحیل الصعافی لکھتے ہیں:

ویشمل الرمی بالبنادق للمرشکین والبغاء ویؤخذ من ذلك شرعية التدرب فيه لأن الاعداد انما يكون

مع الاعتقاد، اذ من لم يحسن امره، لا يسمى بعد المغفرة (۲۳)

”ری کا لفظ مشرکین اور باغیوں کے خلاف بندوقیں چلانے کو بھی شامل ہے، حدیث سے تیر اندازی اور بندوق چلانے کی تربیت اور مشق کی مشروعیت بھی اخذ ہوتی ہے، اس لئے کہ تیر اندازی کی مہارت بھی ہوئی تو اس سے متعلق نہیں کہا جاسکے گا کہ اس نے طاقت اور قوت تیار کر لی ہے“

اسی طرح نشانہ بازی (تیر اندازی) کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

مَنْ عَلِمَ الرَّمَى ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مَنْ أَوْقَدَ عَصْبَىٰ (۲۴)

”جس شخص نے تیر اندازی سمجھی اور پھر اس کو چھوڑ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے (یعنی ہمارے طریقے پر چلنے والوں میں شامل نہیں ہے) یا پھر یہ کہ اس نے نافرمانی کی۔“

اسی طرح ایک روایت میں مذکور ہے کہ آپ ﷺ نے تیر اندازی کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے:

عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ نَفْرٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يَنْتَصِلُونَ بِالْمَسَوْقِ فَقَالَ إِرْمَوْيَا بْنُ سَعْدٍ فَأَعْلَمَ فَانْ أَبَاكُمْ كَانَ رَأَيْيَا لَمْوَا نَاعِمَ بْنَ فَلَانَ قَالَ فَأَمْسِكْ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنَ يَا يَدِيهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَالَكُمْ لَا تَرْمُونَ قَالُوا كَيْفَ نُرْمِي وَانْتَ مَعْهُمْ فَقَالَ إِرْمَوْيَا وَانَا مَعَكُمْ كُلَّكُمْ (۲۵)

”حضرت سلمہ بن اکوع“ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ قبیلہ قبیلہ اسلام کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو بازار میں تیر اندازی کر رہے تھے تو آپ ﷺ نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا: کہ اے بنو اساعیل خوب تیر اندازی کرو کیونکہ تمہارا باب پ بہت اچھا تیر انداز تھا، تیر اندازی کرو اور میں اس بارے میں فلاں کا ساتھی ہوں، اس پر تیر اندازی کرنے والا ایک فریق رک گیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ رک گئے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح تیر اندازی کریں جب کہ آپ ﷺ ایک دوسرے فریق کے ساتھی ہوں، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اچھا میں تم سب کے ساتھ ہوں تم لوگ تیر اندازی کرو۔“

ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاد میں جو تھیار استعمال ہوتے ہیں ان کی مشق کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا شرعاً ضروری ہے، کیونکہ ان سے ایک تو انسان کے جسم کی مشق ہوتی ہے دوسرے جہاد کے لئے تیاری ہوتی ہے، پھر جو کوئی ان تھیاروں کے استعمال میں مہارت حاصل کرنے کے بعد ان کا استعمال ترک کروئے تو آپ ﷺ نے اسے بہت ناپسندیدہ قرار دیا ہے، ایسا ہے کہ گواں نے دین اسلام کو ترک کر دیا ہو۔

(۲) پیدل دوڑ:

اپنی صحت و قوت کے مطابق ہلکی یا تیز دوڑ وہ بہترین جسمانی ورزش ہے، جس کی افادیت پر سارے اطباء

اور ذاکر متفق ہیں، پیدل دوڑ سے سستی، کامی دوڑ ہونے کے علاوہ جسم قوی اور مضبوط ہوتا ہے اور آدمی جہاد و عبادت اور خدمتِ خلق کے لئے تیار ہوتا ہے، نیز اس سے مصنوعی وقارٹوٹ کر مسلمان کی طبیعت میں فرحت اور رکشادہ دل پیدا ہوتی ہے، بھی وجہ ہے کہ صحابہ کرامؐ بھی اس پر عمل کرنے میں مشکلاتے تھے۔

ارشادِ خداوندی ہے:

(فَقَالُوا يَا بَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ) (۲۶)

”(اور جب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے رونے کا سبب پوچھا تو) کہنے لگے ابا! ہم سب تو آپس میں دوڑ کرنے میں لگ گئے۔“

آیت مذکورہ سے فقهاء و مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ پیدل دوڑ میں باہمی مقابلہ اور مسابقت جائز ہے، جیسا کہ علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

فِيهِ مُشْرُوعَةِ الْمَسَابِقَةِ وَفِيهِ مِنَ الطَّبِّ رِيَاضَةُ النَّفْسِ وَالدِّوَابِ وَتَمْرِينُ الْأَعْضَاءِ عَلَى التَّصْرِيفِ۔ (۲۷)
”اس آیت میں مسابقت کا جواز موجود ہے، اور اس مسابقت سے طبی نکتہ نظر سے جسمانی ورزش، جانوروں کی تربیت اور اعضاء پر کثرول حاصل کرنے کی مشق ہوتی ہے۔“

ابن العربي لکھتے ہیں:

المسابقة شرعة في الشريعة وخصلة بدعة، وعن على الحرب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبخيله، فروى انه سابق عائشه فسبقها فلما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقها فسبقه، فقال لها، هذه بتلك (۲۸) وفي ذلك من الفوائد رياضة النفس والدواب وتمرين الأعضاء على التصرف، ولا مسابقة الآبين الخيل والأبل خاصه۔ (۲۹)

”مسابقاتِ شریعت میں ایک جائز طریقہ ہے اور یہ عمدہ طریقہ ہے، اور اس سے جنگ پر مدد ملتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور گھوڑے کے ذریعے بھی یہ عمل کیا ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پیدل دوڑ میں مقابلہ کیا، اور ان سے مقابلہ جیت لیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر سیدہ ہو گئے تو آپ ﷺ نے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پیدل دوڑ میں مقابلہ کیا، لیکن اس بار وہ سبقت لے گئیں۔ پس آپ ﷺ نے ان سے کہا کہ دوڑ کی یہ جیت اس پہلی جیت کے برابر ہو گئی، اور اس مسابقت سے جسمانی ورزش، جانوروں کی تربیت اور اعضاء پر کثرول حاصل کرنے کی مشق ہوتی ہے، اور جانوروں میں سے صرف گھوڑے اور اونٹ میں مسابقت کرانا جائز ہے۔“

ابن العربي کی نقل کردہ روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان پیدل دوڑ مقابلے کا ذکر ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس مقابلے میں حصہ لیتے تھے، اسی طرح امام مسلم کی روایت کردہ ایک طویل حدیث میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ تک دوڑ گئی تھی، جسے انہوں نے جیت لیا تھا۔ (۳۰)

اسی سلمہ بن اکوع "جن کی دوڑ ضرب المثل تھی، اس کا مشہور واقعہ احادیث کی کتابوں میں درج ہے کہ ایک مرتبہ ایک قبیلے کے لیثروں کے ایک گروہ نے مدینہ منورہ سے چار پانچ میل دور غائب نام کی جگہ سے رسول اللہ ﷺ کے کچھ اونٹ لوٹ لئے، چنانے والے کو قتل کر دیا اور انہوں کو لے کر چل پڑے، یہ لیثرے گھوڑوں پر سوار تھے اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے، سلمہ بن اکوع تیرکمان لئے ہوئے پیدل غابہ کی طرف جا رہے تھے کہ ان کی نگاہ ان ڈاکوؤں پر پڑی۔ انہوں نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر مدینہ کی جانب منہ کر کے ڈاکہ پڑنے کا اعلان کیا اور خود اکیلے تیرکمان سنبھال کر ان کے پاس پہنچ کر تیر اندازی شروع کر دی اور اتنی پھر تی کے ساتھ مسلسل تیر مارتے رہے کہ لیثروں نے سمجھا کہ کوئی بڑی جماعت ہمارا پچھا کر رہی ہے، چنانچہ وہ بھاگ گئے اور لوٹ ہوئے سارے اونٹ سلمہ نے چھڑا لئے۔ سلمہ کا یہ کارنامہ ان کی دوڑ کی مشق کی وجہ سے ممکن ہوا تھا اور نہ ڈاکوؤں کے پاس گھوڑے تھے اور یہ پیدل تھا۔ (۳۱)

ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ دوڑ نے کا مقابلہ ایک صحبت مند تفترع ہے، جس کی ضرورت جہاد کے میدان میں بھی پڑتی ہے اور یہ جسمانی ورزش بھی ہے، اس لئے مردوں اور ذو حرم عورتوں کے درمیان اور اسی طرح مردوں کا آپس میں دوڑ کا مقابلہ کرنا جائز ہے اور ایسا کرنا وقار اور بزرگی کے خلاف نہیں۔

(۳) کشتی کا مقابلہ:

کشتی میں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کا مقابلہ بھی ایک تفترع اور صحبت مند کھیل ہے اور دو ربیوی میں رانج تھا، خود رسول اللہ ﷺ نے اس کھیل میں حصہ لیا ہے، جیسا کہ درج ذیل روایت سے ثابت ہے:

عن محمد بن علی بن رکانۃ ان رکانۃ صارع النبی ﷺ فنصر عہ النبی ﷺ (۳۲)

"محمد بن علی بن رکانۃ سے روایت ہے کہ رکانۃ نے رسول اللہ ﷺ سے کشتی لڑی تھی اور آپ نے اسے بچھاڑ دیا تھا۔"

(۴) تیرا کی مشق:

تیرنے کی مشق بھی بہترین جسمانی ورزش ہے، اس سے جہاں جسمانی قویٰ نصبوط ہوتے ہیں اور بوقت ضرورت دوسروں کی جان بچانے میں اس سے کام لیا جاسکتا ہے، وہیں جہاد کی تربیت کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی جنگ میں ندی، تیز پہاڑی نالے، دریا عبور کرنا قدر تی امر ہے اور آج کی جنگ میں سمندری ناکوں کو دفاعی نقطی نظر سے بنیادی اہمیت حاصل ہے، اس لئے ایک مسلم نوجوان کے لئے تیرا کی جہاں تفریغ طبع اور جسمانی ورزش کا عمدہ ذریعہ ہے، وہاں یہ کھیل بوقت ضرورت اپنی اور دوسروں کی جان بچانے اور آئندہ جہاد کی بہترین تیاری بھی ہے، نصوحہ علیہ السلام کا ارشاد ہے:

خیر لہو المؤمن السباحة و خیر لہو المرأة العفولة (۳۳)

”مؤمن کا بہترین کھیل تیرا کی ہے اور عورت کا بہترین کھیل سوت کا تنا ہے“

(۵) اچھے شعر سننا اور سنانا:

فرصت کے لمحات میں (مثلاً سفر وغیرہ میں) اگر اچھے اشعار کے ذریعے تفریغ طبع حاصل کی جائے تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جیسا کہ حضرت شریفؓ سے روایت کہ میں ایک دن رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ ایک سواری پر بیٹھا چلا جا رہا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا ”کیا تمہیں امیہ بن ابی الحصیر کے اشعار یاد ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے فرمایا! سناؤ، میں نے ایک شعر سنایا، آپ نے فرمایا! ”اوہ“ میں نے ایک اور شعر سنایا، آپ نے فرمایا! ”اوہ کچھ“ یہاں تک کہ اسی طرح میں نے آپ کو سو شعر سنائے۔ (۳۴)

(۶) گھوڑے سواری:

اسلام کا ایک اور پسندیدہ کھیل گھر سواری ہے، جو جہاد میں کام آئے کے، یہ کھیل ایسا ہے کہ اس میں جسم کی پوری ورزش کے ساتھ انسان میں مہارت، ہمت و جرأت اور بلند حوصلگی جیسی اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں اور وقت پڑنے پر یہ کھیل جہاد اور سفر میں خوب کام آتا ہے، گھر دوڑ میں مہارت پیدا کرنے کی عرض سے رسول اللہ ﷺ نے نہ صرف یہ کہ گھوڑہ دوڑ کی اجازت دی تھی بلکہ اپنی نگرانی میں اس کے مقابلے بھی کروائے تھے، جیسا کہ درج ذیل روایت سے ثابت ہے:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد اضمرت من الحفياء وكان امدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضر من الثنية الى مسجدبني زريق وكان ابن عمر رضي الله عنه فيمن سابق بها. (۳۵)

”عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کے درمیان مسابقت کرائی جو اضمار کئے گئے تھے اور یہ مسابقت حیاء سے شروع ہوئی اور شدید الوداع پر ختم ہوئی، اور جن گھوڑوں کا اضمار نبیل کیا گیا، ان کے درمیان نبیل الوداع سے مسجد نبی زریق تک مسابقت کرائی، اور حضرت ابن عرب رضی اللہ عنہ مسابقت کرانے والوں میں شامل تھے۔“

حدیث میں ”اضمار“ کا ذکر ہے، اضمار اس کو کہتے ہیں کہ پہلے تو گھوڑے کو خوب گھاس دانہ کھلا پلا کر بہت توی اور فرہہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا گھاس دانہ بتدریج کم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اصل خوارک پر لے آتے ہیں اور پھر اس کو ایک مکان میں بند کر کے اس پر گرم جھوول ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گرم ہو جاتا ہے اور پسند چھوڑتا ہے اور جب پسند ٹکٹک ہو جاتا ہے تو وہ گھوڑا اسک ہو جاتا ہے، یعنی اس کا گوشت تو ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن دوڑنے میں قوی رہتا ہے۔ (۳۶)

اسی طرح حضرت علیؓ سے روایت ہے:

ان النبی ﷺ قال له ياعلی قد جعلت اليك هذه السبقة بين الناس ،فخرج علىؓ فدعاسراقة بن مالك فقال : ياسراقة اني قد جعلت اليك ماجعل النبی ﷺ فی عنقی من هذه السبقة فاذاتبت المبطان فصف الخيل ثم نادثلا ثم اهل من مصلح للجام او حامل لغلام او طارح لجل فاذالم يجلك احد فكبیر ثلا ثم خلها عند الثالثة بسعد الله بسبقه من شاه من خلقه فكان علىؓ يقعد عند منتهي العایة ويحط خطأ يقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين اباهامی ارجلهما وتمر الخيل بين الرجلین ويقول لهمَا اذا خرج احد الفرسین على صاحبه بطرف اذنه او اذن او اعذار ،فاجعلوا السبقة له ،فإن شكتما فاجعلا سبقهما نصفين - (۳۷)

”ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کے گھوڑوں کے درمیان دوڑ کرنے کا معاملہ انہیں سونا، حضرت علیؓ نے اس گھوڑوڑ کی نگرانی کے لئے حضرت سراقد بن مالک ”کو بلایا، انہوں نے اس سے کہا کہ دراصل یہ کام میرے پر در رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا تو میں آپ کے پر در کرتا ہوں، پس جب تم اس جگہ پہنچو کہ جہاں سے گھوڑے دوڑائے جائیں گے تو گھوڑوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دینا پھر گھوڑوں کے مالکوں کو پکار کر کہنا کہ وہ گھوڑوں کی لگائیں ان کو سواروں اور دوسروں سامان ان پر پڑی ہوئی جلوں کو تھیک کر لیں، جب ان میں سے کوئی بھی ان کے خلاف کوئی اعتراض نہ کرے تو پھر تین دفعہ اللہ اکبر کہنا، پھر تیسرا دفعہ تکبیر کہنے کے بعد ان گھوڑوں کو دوڑنے کے لئے چھوڑ دینا، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اس دوڑ میں فائیاب کرے گا، حضرت علیؓ خود اس جگہ پر بیٹھتے تھے کہ جہاں دوڑ ختم ہوتی تھی۔ اس جگہ پر آپ ایک لائن کھیچ لیتے تھے اور اس لائن کے دونوں کنوفوں پر دو آدمی کھڑے

کردئے جاتے تھے جو اس لائن پر اپنا انکو خار کھٹتے تھے اور گھوڑے ان آدمیوں کے درمیان سے گزرتے تھے، اس بارے میں حضرت علیؓ فرمایا کرتے کہ اگر کسی گھوڑے کے دونوں یا ایک کان کا کنارہ دوسرا گھوڑے سے آگے ہو تو وہ گھوڑا جیت جائے گا اور انعام کا مستحق ہو گا، لیکن اگر اس بارے میں یہ شک ہو کہ دو گھوڑے اکٹھے آگے نکلے، تو انعام کی رقم ان میں تقسیم کرو گا۔“

گھڑ سواری کی طرح اونٹ سواری اور اونٹ دوز بھی ایک عدہ کھیل ہے، اونٹ دوز میں مسابقت درج ذیل

حدیث سے ثابت ہے:

وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ كَانَتْ نَاقَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمِيَ الْعَضْبَاءِ وَكَانَتْ لَا تَسْبِقُ فَجَاهَ اعْرَابِيَّ
عَلَى قَعْدَهِ لَهُ فَسَبَقَهَا فَأَشْتَدَّ ذَلِكُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ حَقًا عَلَى اللَّهِ
إِنْ لَا يَرْفَعُ شَيْءًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعْهُ. (۳۸)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ تھی جس کا نام عضباء تھا اور وہ کبھی پیچھے نہیں رہتی تھی، لیکن ایک دیرہاتی اپنے اونٹ پر آیا اور اس کا اونٹ آگے نکل گیا، یہ بات مسلمانوں پر سخت گزری تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا ایک ثابت شدہ فیصلہ ہے کہ دنیا کی جو بھی چیز سر بلند ہوتی ہے خدا اس کو پست کر دیتا ہے۔“

ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گھوڑا دوز اور اونٹ دوز کے اس قسم کے مقابلوں کا مقصد یہ ہے کہ گھوڑوں اور اونٹوں کو جہاد میں استعمال کرنے اور ضرورت کے وقت ان سے فائدہ اٹھایا جاسکے، اس لئے ایسی دوزوں کو جائز بلکہ پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے گھوڑے اور دوسری تمام چیزوں جن سے یہ مقصد حاصل ہو تو ان کے درمیان مقابلہ جائز ہے۔

جہاد کی چیزوں میں شرط کا مال (انعام) لینا:

شریعت اسلامیہ میں پانسہ ڈالنا اور قمار بازی سخت منوع ہے، اس کی تمام قسمیں حرام ہیں، اور مسلمانوں کے لئے اس کے تمام طور طریقوں کا سد باب کر دیا گیا ہے اور کسی طرح سے بھی اس کے پاس بھٹکنے سے باز رکھا گیا ہے، تاہم گھوڑا دوز کے مقابلوں میں انعام مقرر کرنا یا رہا (گھوڑا دوز میں شرط لگانا) مباح رکھا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

لَا سَبِقَ الْأَفْيَ نَصْلِي أَوْ حَافِرَ. (۳۹)

”مسابقت کی شرط کا مال لینا تین چیزوں (یعنی) تیر چلانے، اونٹ دوز کرنے، اور گھوڑا دوز کرنے؛ جائز ہے۔“

”سینق“ شرط کی رقم کو کہتے ہیں، یعنی وہ مال جو آگے بڑھ جانے کی شرط چیزتے والے کو دیا جاتا ہے، اس حدیث سے بظاہر یہ واضح ہوتا ہے کہ ان تینوں چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز میں مسابقت یعنی آگے بڑھ جانے کی بازی لگانا اور اس کا مال لینا جائز نہیں ہے، لیکن فقہاء نے ان تینوں کے حکم میں ان چیزوں کو بھی شامل کیا ہے جو جہاد کا سامان و ذریعہ ہیں جیسے گدھا، خپر، ہاتھی وغیرہ۔ بعض حضرات نے پیدل دوڑ نے اور بعض نے پھر پھینکنے اور اسی طرح جدید اسلو سے نشانہ بازی میں مسابقت کو جواز کے حکم میں شامل کیا ہے۔

جو چیزوں جہاد کے ذرائع میں شامل ہیں ان کی مسابقت میں شرط باندھنا اور بازی لگانا اور شرط کی رقم لینا دراصل جہاد کی ترغیب دینے کے پیش نظر ہوتا ہے، اور اسی لئے اس کے جواز کا حکم بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ جواز چند شرائط کے ساتھ مشرد ہے۔ مثلاً یہ کہ مسابقت کے مقابلے میں کسی مال یا رقم کی شرط، امیر و حاکم یا تیسرے شخص کی طرف سے باندھی جائے، یا یہ کہ فریقین مقابلہ میں سے صرف ایک جانب سے مال پیش کیا گیا ہو، یا یہن طور کہ ان میں سے ایک فریق یہ کہے کہ اگر تم سبقت لے گئے تو اس قدر تم کو دوں گا اور اگر میں جیت گیا تو تم سے کچھ نہیں لوں گا۔ (۴۰)

اگر مقابلہ کرنے والے فریقین میں سے ہر ایک کی طرف سے مال شرط پر لگایا جائے تو حلال نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ جواہ جائے گا۔ البتہ اگر مقابلے میں کوئی تیسرا فریق اپنا گھوڑا شامل کر دے جسے ” محلل“ کہتے ہیں تو یہ صورت بھی جائز ہو سکتی ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے، ارشاد بنوی ہے:

من اذْخَلَ فِرْسَاتِيْنَ فَإِنْ كَانَ يَوْمَنْ أَنْ يَسْبِقَ فِلَّا خَيْرٌ فِيْهِ فَإِنْ كَانَ لَا يَوْمَنْ أَنْ يَسْبِقَ فِلَّا بَأْسٌ بِهِ۔

(۴۱)

”جو شخص دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا شامل کرے تو اگر وہ گھوڑا ایسا ہے کہ اس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ آگے نکل جائے گا تو اس میں بھلانی نہیں ہے اور اگر یہ یقین نہیں ہے کہ وہ آگے نکل جائے گا تو پھر اس میں مضائقہ نہیں“۔

اس حدیث کی روشنی میں فقہاء نے مذکورہ صورت کے جائز ہونے کی دو شرطیں بیان کی ہیں: اول یہ کہ محلل کا گھوڑا ان دونوں کے اہم پلے ہو، یا یہن طور کہ اس گھوڑے کے سبقت لے جائے کا انتکا ایسکا جائز، دوسرے یہ کہ مقابلہ کرنے والے مان لیں کہ اگر ” محلل“ جیت جائے گا تو ان دونوں کا شرط پر لگایا ہو، مال اس کا حق ہو گا، اور اگر وہ دونوں جیت جائیں گے تو ” محلل“ سے کچھ نہ لیں گے، البتہ ان دونوں میں سے جو بازی سے جائے گا وہ دوسرے کا لگایا مال لے گا، پس اگر محلل جیت گیا تو دونوں کا داو پر زنگا یا ہو مال لے جائے گا، اور اگر ہماری کیا تو ان دونوں کو

پکھنہ دے گا۔ ہاں اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر سبقت لے گیا تو دوسرے کا لگایا ہوا مال لے لے گا (۲۲)

مختصر ایسے کہ گھڑ دوڑ کے مقابلوں میں صرف تین صورتوں میں انعام مقرر کیا جاسکتا ہے: (۱) انعام کی رقم امیر، حاکم یا تیسرے فرد کی طرف سے رکھی جائے (۲) دوسری صورت یہ کہ فریقین مقابلہ میں سے صرف ایک جانب سے انعام کی رقم پیش کی گئی ہو، (۳) اور تیسری صورت یہ کہ مقابلے میں کوئی تیسرا "محل" شامل ہو جائے۔ پس مذکورہ بالا صورتوں کے علاوہ آپس میں ہار جیت کی کوئی رقم بطور شرط مخہربانا جو اور قمار ہے جس کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے، آج کل جتنی صورتیں گھوڑ دوڑ کی رائج ہیں وہ کوئی بھی جوئے اور قمار سے خالی نہیں اس لئے سب حرام و ناجائز ہیں۔

یہ تو چند وہ کھیل تھے جن کا احادیث و آثار میں باقاعدہ ذکر آیا ہے، حدود شرعیہ کو قائم رکھتے ہوئے ان کھیلوں کے جواز میں کوئی شبہ نہیں، ان کے علاوہ دور حاضر میں جو مشہور کھیل مردج ہیں، ان میں کرکٹ، ہاکی، فٹبال، والی بال، لان ٹنس، بیڈ منشن اور نیبل ٹنس وغیرہ شامل ہیں، ان میں سوائے کرکٹ کے باقی وہ کھیل ہیں جن میں پیسہ اور وقت کا خرچ نہ تباہ کم ہے، ان کھیلوں میں جسمانی ورزش بھی اچھی ہوتی ہے اور کھیل میں شامل تمام کھلاڑی بالعموم یکساں طور پر محظوظ ہوتے ہیں۔

تفہیمات کی حدود و قوود:

اسلام کی رو سے ہنی و جسمانی شخصی اور نشاط چونکہ پسندیدہ صفات ہیں، اسی لئے شریعت نے ان صفات کے حصول کے لئے صحت مندرجہ اور مناسب کھیلوں کی نہ صرف اجازت دی ہے، بلکہ اس کی حوصلہ افرائی بھی کی ہے، بشرطیکہ وہ غیر اخلاقی آلائشوں سے پاک ہوں، بقدر ضرورت ہوں اور عبادات اور فرائض شرعیہ سے غافل کرنے والے نہ ہوں، یہ شرط اس لئے لگائی گئی ہے کہ تجربہ شاہد ہے کہ اچھی سے اچھی چیز کے ساتھ جب ضرر ساں چیزوں کی ملاوٹ ہو جائے یا وہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو تجھے نقصان اور ضرر کی شکل میں نکلتا ہے، مثلاً کھانا ضرورت سے زیادہ کھایا جائے تو صحت درست ہونے کے بجائے مزید خراب ہو جاتی ہے اور انسان بیمار ہو جاتا ہے۔

اسی طرح جائز اور مفید کھیل و تفریح کے ساتھ اگر جوئے، مرسیقی اور دوسرے نوش پروگرام کی آمیزش کر دی جائے تو یہ متعدد روحانی، نفسیاتی اور اخلاقی بیماریوں کا سوبہ بن جاتی ہے، یا جانوں کو ان جائز کھیلوں کا اس طرح رسیا اور عاری پہنادیا جائے کہ ان کو نہ تماز روزہ یاد رہے اور نہ دعوت و جہاد کا فرض یاد رہے، بلکہ کھیل ہی اس کی زندگی کا مقصد بن جائے اور اپنے سے اچھا کھلاڑی ہبہا اور شین ایلووی کھیلوں میں شایاں کارگروگی کا مظاہرہ ہی اس کا اصل

ہدف بن جائے تو ایسی کھیلوں سے اچھے سے اچھے کھلاڑی تو تیار ہوتے رہیں گے، لیکن اچھے مسلمان اور جذب جہاد سے سرشار نوجوان تیار نہیں ہو سکتیں گے۔ (۲۳)

شریعت کا اصول یہ ہے عادات و معاملات میں سے جس چیز کی ممانعت موجود ہو وہ جائز ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی جائز اور مباح چیز فساد و بگاڑ اور معصیت و گناہ کا ذریعہ ثابت ہو رہی ہو تو وہ فی نفسہ جائز ہونے کے باوجود ذریعہ معصیت ہونے کی وجہ سے منوع ہو جاتی ہے، اس لئے فقہاء نے جائز تفریحات کے لئے بھی کچھ حدود و قیود کی نشاندہی کی ہے، جن میں سے بعض حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ کھیل کے لئے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جس سے گرد و نواح میں کسی قسم کی جانی یا مالی نقصان پہنچنے کا اندر یا شرمندہ ہو۔

۲۔ خود کھینے والے کو یا اس کے ساتھ شرکاء میں سے کسی کو کسی قسم کے جسمانی یا مالی نقصان پہنچنے کا اندر یا شرمندہ ہو۔

۳۔ نمازوں کے اوقات میں نہ ہو، یعنی نماز کے نظام میں کوئی خلل نہ آئے۔

۴۔ دوران کھیل ستر کھلا ہوانہ ہو۔

۵۔ گالی گلوچ نہ ہو۔

۶۔ کوئی ایسا مقابلہ نہ ہو کہ ہار جیت کی صورت میں مال دینے کی شرط ہو۔

۷۔ اس میں ایسا انہاک نہ ہو کہ اس کو مستقل پیشہ کے طور پر اختیار کر لے کہ اس کو پھر کھلاڑی کے نام سے یاد کیا جانے لگے۔

۸۔ اس میں درزش کا مفہوم ہی غالب ہو، لہو و لمب اور تماشا کا پہلو غالب نہ ہو۔ (۲۳)

منوع تفریحات:

اسلامی تعلیمات میں جس طرح صحیت مند تفریح اور با مقصد کھیل کی اجازت موجود ہے، اسی طرح لہو و لمب اور لغو کی ممانعت بھی مذکور ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشَرِّى لِهُوَ الْعَدِيدُ بِلُيُضِيلٍ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيرِ عِلْمٍ وَيَتَحَدَّهَا هُرُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ (۴۵)

”اور کچھ لوگ وہ ہیں جو خرید اور ہیں کھیل کی باقوں کے، تاکہ اللہ کے راستے سے بے سوچے سمجھے گراہ کریں اور اس کی بھی اڑائیں ایسے لوگوں کے لئے ذلت کا عذاب ہے۔“

اسی طرح ارشاد نبوی ہے:

من حسن اسلام المرء ترکہ مالا یعنیہ۔ (۴۶)

”یعنی آدمی کے اچھے اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی امور ترک کر دے۔“

یہ لا یعنی امور وہ ہیں جنہیں آیات و احادیث میں لبھ، لعب اور لغو کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، ابھر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کو قابل توجہ اہم امور سے غافل کر دے (۲۷) لعب ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو بلا کسی مقصد صحیح کے انعام دیا جائے (۲۸) اور الملغو ہر کمی (فضول) بات اور ہر نکلنے (فضول) فعل کو کہا جاتا ہے، جس میں گانا با جاراگ رنگ وغیرہ بے کار باتیں شامل ہیں۔ (۲۹)

اسی طرح شریعت نے جن کھیلوں سے بختی سے منع کیا ہے وہ حسب ذیل ہیں:

(۱) نرد پوسر (۲) شترنخ (۳) کبوتر بازی (۴) مرغ بازی اور دیگر جانوروں کو بڑھانا (۵) پنگ بازی، (۶) تاش کھیننا (۷) وڈیو گیمز (۸) تصویر کشی (اگر خاص ضرورت کے تحت نہ ہو) (۹) گانا سننا (۱۰) فلم، فی وی اور ویڈیو کے ذریعے تھش اور بے ہودہ پروگرامز دیکھنا وغیرہ۔

اس کے علاوہ جو کھیل کسی حرام و معصیت پر مشتمل ہوں وہ اس معصیت یا حرام کی وجہ سے ناجائز ہوں گے اس کی کئی صورتیں ممکن ہیں مثلاً: کسی کھیل میں ستر کھولا جائے یا اس کھیل میں جو اکھیلا جا رہا ہو، یا اس میں مرد و زن کا تخلوٰ انتہاء ہو، یا اس میں دیگر غیر شرعی امور کا اہتمام کیا گیا ہو، اسی طرح جو کھیل فرائض اور حقوق واجبہ سے غافل کرنے والے ہوں، وہ بھی ناجائز ہوں گے، علاوہ ازین جس کھیل کا کوئی مقصد نہ ہو، بلا مقصد محض وقت گزاری کے لئے کھیلا جائے وہ بھی ناجائز ہو گا۔ (۵۰)

حوالہ جات و حواشی

- ۱ الراغب الاصفهانی ، ابوالقاسم الحسین بن محمد بن المفضل ، معجم مفردات الفاظ القرآن ، میر محمد کتب خانہ ، کراچی ۲۸۹:۲۔
- ۲ ابی عبدالله محمد بن احمد الانصاری القرطبی ، الجامع لاحکام القرآن ، داراحیاء التراث العربي ، بیروت ، ۱۹۶۵ء ۳۵۴:۸۔
- ۳ القصص ۷۶:۲۸۔
- ۴ یونس ۵۸:۱۰۔
- ۵ مولانا گوہر حملن ، تفہیم السائل ، مردان ، مکتبہ تفہیم القرآن ۲۰۰، ۲۹۹:۵۔
- ۶ یوسف القرضاوی ، الحلال والحرام فی الاسلام ، (اردو ترجمہ ، مترجم شمس پیرزادہ) دارال المعارف بمبنی ۳۶۸، ۱۹۹۳ء۔
- ۷ سورۃ یوسف ، ۱۱:۱۲۔
- ۸ بلند شهری ، عاشق الہی ، انوار البیان فی کشف اسرار القرآن ، ملتان ، دارہ تالیفات اشرفیہ ، ۱۹۹۴ء ۷۹:۵۔
- ۹ حصاص ، ابی بکر احمد بن علی الرازی ، احکام القرآن ، لاہور ، سہیل اکڈمی ، ۱۹۹۱ء ۱۶۸:۳۔
- ۱۰ امام رازی ، فخر الدین محمد بن عمر ، بن حسین ، مفاتیح الغیب الشہیر بالتفسیر الكبير ، دارالطباعة العامرة ، ۱۵۹:۵۔
- ۱۱ بخاری ، کتاب النکاح ، باب التزویج الشیبات ، دارالسلام ریاض ، الطبعۃ الاولی ، ۱۹۹۹ء ، حدیث نمبر: ۵۰۷۹۔
- ۱۲ تھانوی ، اشرف علی ، تفسیر بیان القرآن ، کراچی ، ایج ایم سعید کمپنی ، ۷۱:۵۔
- ۱۳ یوسف القرضاوی ، الحلال والحرام فی الاسلام ، المکتب الاسلامی ، بار پنجم ، ۱۹۶۹ء ، ص ، ۳۷۱۔
- ۱۴ علی المتقی بن حسام الدین الہندی ، کنز العمال ، بیروت ، موسسه الرسالۃ ، بار پنجم ، ۸۵ء کتاب اللہو ، حدیث نمبر: ۶۱۷۔
- ۱۵ احمد بن الحسین البیہقی ، شعب الایمان ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ۱۹۹۰ء ، باب فی تحیرین الملائک والملائکی حدیث نمبر: ۶۵۴:۲ ، ۶۵۴:۵ ، ۲۴۷:۵۔

- ١٦ سنن ترمذی، ابواب الجهاد، باب ما جاء فی فضل الرمی فی سبیل اللہ، دارالسلام ریاض، الطبعة الاولی، ١٩٩٩ء، حدیث نمبر: ١٦٣٧
- ١٧ ملا علی قاری، مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوۃ المصایب، کتاب الجهاد، الفصل الثانی، ٤٣١: ٧، ٤٣٢
- ١٨ محمد بن عبد اللہ ابن العربی، عارضۃ الاحوذی، بشرح مع الترمذی، بیروت، دار الفکر، ١٩٩٥، کتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء فی فضل الرمی فی سبیل اللہ، ١٢٣: ٤
- ١٩ مفتی محمد شفیع، تفسیر معارف القرآن، کراچی، ادارۃ المعارف، ٢٣: ٧، ١٩٧٩ء
- ٢٠ ابی سلیمان محمد بن محمد الخطابی، معالم السنن شرح سنن ابی داؤد، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١٩٩١، کتاب الجهاد، باب الرمی، ٢٠٩: ٢، ٦٠: ٩، الانفال
- ٢١ مسلم، کتاب الامارة بباب فضل الرمی والبحث علیه وذم من علمه ثم نسیه، دارالسلام ریاض، الطبعة الاولی ١٩٩٩ء، حدیث نمبر: ٤٩٤٦
- ٢٢ سید محمد بن اسماعیل الصنعتانی، سبل السلام شرح بلوغ المرام، کتاب الجهاد، باب فی السبق والرمی - ٧٢، ٧١: ٤
- ٢٣ مسلم: کتاب الامارة، باب فضل الرمی والبحث علیه وذم من علمه ثم نسیه، دارالسلام ریاض، الطبعة الاولی ١٩٩٩ء، حدیث نمبر: ٤٩٤٩
- ٢٤ الشوکانی، قاضی محمد بن علی بن محمد، نیل الاوطار شرح منتقی الاخبار، کتاب الجهاد والمسیر، باب السبق والرمی، باب البحث علی الرمی، ٢٤٥: ٨، سورۃ یوسف، ١٧: ٢
- ٢٥ سیوطی، حافظ جلال الدین، عبدالرحمٰن بن ابی بکر، الاکلیل فی استنباط التنزیل، کوئٹہ، مکتبہ اسلامیہ ١٤٠٣ھ، ص: ١٣٠
- ٢٦ سنن ابی داؤد میں یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے:
- عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا کانت معاً النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر قالت فسابقته فسبقتہ علی رجلی فلما حملت اللحم سابقتہ فسبقتی فقال هذه بتلك السبقة، کتاب الجهاد، باب فی السبق علی الرجل، دارالسلام ریاض، الطبعة الاولی، ١٩٩٩ء، حدیث نمبر: ٤٥٧٨
- ٢٧ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدل دوڑ کا

مقابلہ کیا تو وہ اس دوڑ کو جیت گئیں، پھر مدت گزر گئی تو ان کا جسم بھاری ہو گیا تو اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدل دوڑ کا مقابلہ کیا تو آپ ﷺ نے یہ دوڑ جیت لی، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ دوڑ کی یہ جیت ان کی پہلی جیت کے برابر ہو گئی، یہ روایت قدرے تفصیل کے ساتھ مجمٰع الكبیر للطیر انی میں بھی موجود ہے، ملاحظہ ہوا حافظ ابن القاسم سلیمان بن احمد، مکتبہ ابن تیمیہ، القاهرہ، ۱۹۸۳ء، معجم الكبير، ۲۳: ۴۷، ۲۳: ۱۹۸۳ء، معجم الكبير، ۴۷: ۲۳، حدیث نمبر: ۱۲۵، ۱۲۶

- ۲۹ ابن العربي، ابو بکر محمد بن عبدالله، احکام القرآن، بیروت، دارالمعرفہ، ۱۹۷۲ء، ۳: ۱۰۷۵
- ۳۰ کتاب الجناد، باب غزوة لذى قردو وغيرها حدیث نمبر: ۴۶۷۸
- ۳۱ صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة ذات القرد، دارالسلام ریاض، الطبعۃ الاولی، ۱۹۹۹ء
- ۳۲ نیل الاوطار شرح منقى الاخبار، کتاب الجناد والسریر، باب ماجاء في المسابقة على الاقدام والصارعة واللعب بالحراب وغير ذلك، ۸: ۲۰۵
- ۳۳ کنز العمال، کتاب اللہو واللعب والتغنى من قسم الاقوال، باب اللہو المباح، ۱۵: ۲۱۱
- ۳۴ مسلم، کتاب الشعر، باب في انشاء الاشعار وبيان اشعر الكلمة وذم الشعر، دارالسلام ریاض، الطبعۃ الاولی، ۱۹۹۹ء، حدیث نمبر: ۵۸۸۵
- ۳۵ ۱۔ الصحیح البخاری، کتاب الجناد، باب غایۃ السبق للحیل المضمرة، دارالسلام ریاض، الطبعۃ الاولی، ۱۹۹۹ء، حدیث نمبر: ۲۸۷۰
- ۳۶ الصحیح المسلم، کتاب الامارة، باب المسابقة بين الحیل وتضمرها، دارالسلام ریاض، الطبعۃ الاولی، ۱۹۹۹ء، حدیث نمبر: ۴۸۴۳
- ۳۷ التو روی شرح مسلم، کتاب الامارة، باب المسابقة بين الحیل وتضمرها، ۲: ۱۳۲
- ۳۸ الدارقطنی، علی بن عمر، سنن الدارقطنی، لاہور، دارنشر الكتب الاسلامیہ، کتاب سبق بين الحیل ۴: ۳۰۵-۳۰۷
- ۳۹ بخاری، کتاب الجناد، ناقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دارالسلام ریاض، الطبعۃ الاولی، ۱۹۹۹ء، حدیث نمبر: ۲۸۷۲
- ۴۰ ابو داؤد، کتاب الجناد، باب في السبق، دارالسلام ریاض، الطبعۃ الاولی، ۱۹۹۹ء، حدیث نمبر: ۲۵۷۴

تفسیر کے لئے ملاحظہ ہو:

مولانا عبد الله جاوید، مظاہر حق جدید شرح مکلوۃ شریف، از افادات مولانا قطب الدین خان، کراچی

دارالاشعاعت ١٩٩٧ء، ٢٩٣: ٢٧٥، ٢٧٦

- ٤١: محی السنۃ رکن الدین ابی محمد الحسین بن سعید ابن محمد الفرا البغوى، مصایب السنۃ، بیروت

دار المعرفة، ١٩٨٧ء، کتاب الجهاد باب أعداد الله الجهاد، حدیث نمبر: ٢٩٢٨

- ٤٢: تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔

قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ٩: ١٤٥ - ١٤٨

الجزیری، کتاب الفقه علی المذاہب الاربعہ، بیروت، دارالفکر، ١٩٨٦ء، کتاب الخطرو الاباحة،

باب مبحث المسابقة بالخیل وغیرہا، ٢: ٤٧ - ٥١

وهبة الرحیلی، التفسیر المنیر فی العقیدة والشريعة والمنهج، دمشق، دارالفکر، ١٩٩٨ء، ١٢: ٢٢٤

- ٤٣: ٢٢٦

شوکانی، نیل الاوطار، کتاب الجهاد والسیر، ابواب السبق والرمی، ٨: ٢٣٨ - ٢٤٥

ابواللیث سمرقندی، بستان العارفین، علی هامش تنبیہ الغافلین، مصر، المکتبۃ التجاریۃ الکبری، ص:

١٩٣، ١٩٣

- ٤٤: مولانا گوہر الرحمن، تفہیم المسائل، ٥: ٣٠٠

- ٤٥: احسان اللہ شاہزاد، جدید معاملات کے شرعی احکام، دارالاشعاعت کراچی، ٢٠٠٧ء، ١: ١٠٣

- ٤٦: سورۃ لقمان، ٣١: ٤

- ٤٧: تمذی، ابواب الرزہد، باب حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ مالا یعنیہ، حدیث نمبر: ٣١٨

- ٤٨: راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ٢: ٤٧٥

- ٤٩: ایضاً ٤٧١: ٢

- ٤٥: القرطبی، الجامع احکام القرآن، ١٣: ٨٠

- ٤٦: مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: مفتی محمد شفیع، احکام القرآن، ادارۃ القرآن وعلوم الاسلامیہ

الطبعۃ الثالثہ، ١٨٦: ٣، ١٨٦: ٣، ١٨٦: ٣، ١٨٦: ٣

- ٤٧: يوسف قرضاوی، الحلال والحرام فی الاسلام، ص: ٣٧٦ - ٣٨٨

- ٤٨: شوکانی، نیل الاوطار شرح منتقی الاخبار، کتاب الجهاد والسیر، باب ما جاء فی اللہ الکبیر،

٢٦٠: ٨ - ٢٧١